



بخارب

کل شرکت نا صنعتی

محمد اکرم اعوان

منارہ صنایع جہلم

اک حرفِ ناصحانہ نامی کتاب بچہ نظر سے گزر اکتا پر کیا ہے اسلام کے ساتھ  
ایک ظالمانہ منداق اور پاک تاثر کے ساتھ ایک مجرمانہ تمسخر بلکہ اسلام  
کے نام پر کفر پھیلانے کی ایک خطرناک سازش ہے اور ایک صوچ پر صحیح  
منصوبے کے تحت ملک و ملت کو سبوتوائز کرنے کی منظہم کوشش ہے  
معلوم ہوا ہے کہ، اپریل ۱۹۴۸ء کو یہ کتاب بچہ پورے ملک میں ۲ لکھ لاکھ  
کی تعداد میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی نظر میں قاری یہ تاثریت ہے کہ شاید  
عام آدمی کی بحلا فی کیلئے کوئی اقدام ہو گا مگر اس کے مطالعہ سے یہ  
حقیقت سامنے آئی کہ اس کا مقصد مزائیوں کی من مانی کارروائیوں  
کی تائید اور مسلمانوں کی ان کوششوں کو بے اثر کرنا ہے جو اسلام کے  
نام پر کفر پھیلانے کی اس سازش کو بے نقاب کرتی ہیں اس کا حرف  
اول ہی مزائیت کے باñی کی طرح علمائے ربائی پر حملہ ہے بالخصوص  
ہس طبقہ پر جو ہمیشہ ان کا تعاقب کرتا رہا ہے عجیب بات ہے مخفف  
نے مسلمان علماء کی زیارتی کا رونار دیا ہے اور اُس کا کہنا ہے کہ ایک  
طبقہ ان کی جماعت کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا اور قرآنی تعلیمات  
کے مطابق اخلاق اور رواداری سے پیش نہیں آتا مگر کمال یہ ہے  
کہ اس فرقہ کے باñی اور ان کے بیٹا اللہ پستی نبیؐ کے اخلاق اور  
روداری کے نمونے ملاحظہ ہوں:-

وَإِنْ جِنَّكَ آذِنَادِي مِنْ حِصْرِهِ لِيَنْهَا وَالوُوْنَ كَمْ مَتَعَاقِقٌ فَرِمَاتَهُ إِنْ "وَإِنْ  
لُوگوں نے پوروں قزاقوں اور جرامیوں کی طرح اپنی محسن گورنمنٹ  
پر حملہ شروع کر دیا ہے" (اذالہ اور یام صفحہ ۲۳)  
وَإِنْ مُولَانَا شَنَوَ اللَّدُكَ كَمْ مَتَعَلَّقٌ فَرِمَأَيَا وَوَاسَ نَسْخَتَ بِيَهْيَى سَجْهُوْ  
بولا ہے ... وہ انسان کستوں سے بدتر ہے جو بے وجہ بولتا ہے۔  
(اعجازِ احمدی صفحہ ۲۳)

(۴) مولوی شناو اللہ کے متعلق ایک مجلس میں، اجنبیوری ۱۹۰۳ء کو میرزا صاحب نے یہ الفاظ استعمال کئے وہ خبیث، سُوْرہ، کتا، بذات گو خود ہم شناو اللہ کو بعضی جلسہ عام میں نہیں بولنے دیں گے۔ کہ ہے کی طرح لکام دے کر بٹھائیں گے اور گندگی اس کے منہ میں ڈالیں گے (الہمایات مزرا) (صفحہ ۱۲۲)

(۵) علمائے اسلام کے متعلق فرماتے ہیں "اے بذات فرقہ مولویاں تم کب تک حق کو چھپاؤ گے، کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیانہ خصلت کو پھوڑو گے۔ اے عالم مولویو! تم پر افسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیارہ پیا وہی عوام کو پلا یا" (انجام آخرین صفحہ ۲۱)

(۶) دنیا میں سب جائزروں سے پاییدہ اور کریم کے لائق خنزیر ہے مگر خنزیر سے پیدا وہ گوک ہیں جو اپنے نفسانی جوش کیلئے حق اور دیانت کی گواہی کو چھپاتے ہیں اے مردار خوار مولویو! او گندی مرد جو اے اندھیرے کے کیڑو!... (ضمیمه انعام آخرین صفحہ ۲۱)

(۷) مولوی عبد الحق غزنوی کو خطاب فرمایا "و تم نے حق کو چھپانے کیلئے یہ جھوٹ کا گوٹھا یا ہے اے بذات خبیث اور شعن اللہ اور رسول کے تو نے یہ یہودیانہ تحریف کی مگر تیرا جھوٹ اے نا بھار پچڑا گی" (ضمیمه انعام آخرین صفحہ ۵۰)

(۸) کنجیلوں کے پھوٹ کے بغیر باقی سب میری بیوت پر ایمان لا جکے ہیں ...  
(آئینہ کیالات صفحہ ۲۵)

میرزا قاریانی کی تحریروں کے یہ چند اقتباسات صرف مشت نمونہ انہ فراوارے کی عیشیت رکھتے ہیں ورنہ ان کا کلام تو مختلظات کا اک طوارہ ہے لیکن اس کے باوجود آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ میں سمجھ کرتا ہوں جہاں تک مجھے علم ہے میں نے اپنی تالیفات میں ایک لفظ بھی

الیسا استعمال نہیں کیا جس کو دشنام درہی کہا جائے ... (ازالہ او ہام صفحہ ۱ جلد اول)  
 اس نبی کے پیچے بیرون کار اس کتاب پر کے مصنف صفحہ ۲ پر لکھتے ہیں  
 وو یہ لوگ اس قدر جوش دیکھاتے ہیں کہ سیخ اور جھوٹ حقیقت اور  
 افسانہ انصاف اور بے انصاف کی کوئی تیزی باقی نہیں رہی یہاں تک  
 کہ عوام انس بھوٹ کی تحریر کو سن سن کر اس پر سچ کا گھان کر کے  
 ان کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں تو برصغیر سے بہت سے مکاتب فکر کے  
 علماء بھی اس احتمال سے ان کی تسلیم پر مجبور ہو جاتے ہیں ۶۷  
 ذرا مندرجہ بالا اقتباسات از ازالہ او ہام جلد اول صفحہ ۲ کو پھر پڑھئے  
 اور بتائیے کہ مرزا سے بڑھ کر کوئی بھوتا آدمی دنیا میں پیدا ہوا ہے۔  
 ان اخلاقِ کریمانہ کے مالک مسلمانوں کو اخلاق اور رواہ ای کا سبق  
 دیتے ہیں : *دستی ہیں طعنہ اضمام پرستی ہم کو  
 سجدہ کرتے ہوئے نکلے ہیں بنخانہ سے*

یہ ان کے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہے کہ کس قدر پُر فریب اندر ان میں  
 پہلے تو علماء احرار کو جھوٹا کہا اور پھر جبلہ علماء کو اس میں شامل  
 کر دیا یعنی اس وقت اس ملک میں سب سے بڑے جھوٹے طرف  
 اور صرف علمائے اسلام ہیں وہ کیا نکتہ آفرینی ہے اور اس کے  
 ساتھ موصوف کو نشکوہ ہے کہ ان کی عزت کیوں نہیں کی جاتی۔

اور پھر مرزا یہوں کے ساتھ مصنف کو پاکستان خطرات میں گھرا ہوا  
 نظر آتا ہے جن میں بعض بیرونی بھی ہیں اور اندر ونی بھی اور وہ یہ  
 بھول جاتا ہے کہ اندر ونی خطرات میں سب سے بڑا خطرہ انحراف  
 اور یہودی ملی بھٹت سے کاشت کیا ہوا یہ مرزا یہت کا پودا ہی ہے  
 جس نے صرف بہادر بالصیف کو فراموش قرار دے کر کے ہی مسلمانوں  
 کو نہ صرف نہتا کر کے بلکہ اندر حصہ کردشمن کے آگے پھینکنے کی کوشش کی

ویجگر عقائدِ اسلامیہ کا جو مذائقِ اڑایا ہے وہ اس کے علاوہ ہے اگلا شکوہ یہ ہے کہ مرزا ائمہ کے مقدس "امام" اور دیگر بزرگانوں کے خلاف فحشِ کلامی کی جا رہی ہے "چہ در لا اور است دزدے کہ بحلف چرانغ دارد" جو شخص تاریخِ نبوت پر حملہ کرنے کی ناپاک جسارت کرے اور ہوا بندیاء سالبِ قہ کی شان میں اس قدر بیہودہ الفاظ کرے کہ جن کو سنتنا اور ان کی تردید نہ کرنا بھی کفر ہے وہ مقدس امام ہمرا اور اس کے ماننے والے دیگر بزرگان کہلاتے ہیں اور جو شخص احراقِ حق کیلے یہ کہے کہ یہ شخص جھوٹ کہتا ہے وہ بد اخلاق ۔۔۔ کیا نہ ای منطق ہے ۔

وزیر امرا صاحب کے اخلاق کے نمونے جو اوپر درج ہیں ایک نظر پر دیکھو  
نبوت دیکھو اور لستانِ نبوت دیکھو  
اور کمال یہ ہے کہ قیامِ پاکستان میں مصنف کو علماء کا کردار مختلفانہ نظر آتا ہے مگر طفر اللہ خان اور مرزا ائمہ کی وہ کوشش کہ "ہم نہ ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں علیہم ریاستِ دی جائے" بھول جاتی ہے اور یہ یاد نہیں رہتا کہ اس کم کردہ راہِ فرقے کے ایک شخص نے بھی اسلامی ریاست کے قیام کی تائید نہ کی تھی

انہیں یہ بھی شکوہ ہے کہ "احمدیوں (مرزا ائمہ) کو قوم وطن اور اسلام کا غدار قرار دیا جا رہا ہے" یہاں مصنف نے ترتیب بدیں دی ہے اور اسلام کو آپر میں لکھا ہے حالانکہ یہ فرقہ اسلام ہی کا نہ صرف غدار ہے بلکہ مقابل ہے اور ایک نئی نبوت کھڑکے اپنے کو اصلی اور وطن اسلام منونے پہنچ رہے جب اللہ کے دین کے ساتھ اس کا سلوک یہ ہے تو پھر کسی قوم اور کیسا وطن!

اس کے ساتھ مصنف قالوں لپند شہروں شاہزادوں اور ایسے لوگوں سے بھی ناراض ہے کہ یہ لوگ اری ٹبریا، فلپائن اور بھارت میں مسلمانوں

کے ساتھ ہونے والے ظلم کی داستان لے بیٹھے ہیں اور یہاں مرزاں عقائدِ اسلامیہ کی رہبیریاں بسکھپر نے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں تو علماء اسلام ان کا ہاتھ روک کر ان پر ظلم ڈھار بھی ہیں اور کوئی قانون پسند شہری کوئی شاعراً ور کوئی ادیب علماء کو اس ظلم سے نہیں روکتا ساتھ میں حکومت پر بھی برسنے ہیں کہ وہ بھی خاموش ہے اور بھر بڑے طمطراق سے معاملہ احکم الحاکمین خدا کے سپرد فرمادیتے ہیں یہ بھی ایک فریب ہے کہ مسلمان اس جملہ برفداہو کران کے خلاف ہجاء و سے باز رہیں اور ان کی ترویدر نہ کر کے اپنے ایمان کو خطرہ میں ڈال لیں۔ یہی اس گروہ کی منطق ہے جو ہجاء کی روح کی نفی کرتی ہے بھی معاملہ اللہ کے سپرد ہوا تم آزم کرو۔ اگر عقائد کی حفاظت مسلمان ہیں کر سکتا تو اس سے ملکی سرحدات کی حفاظت کی امید بھی عبث ہے،

اور بھر بڑے نور و شور سے اپنے لئے شہری حقوق اور حسنِ سلوک کی بات دہراتا ہے اور کمال یہ ہے کہ چند ملکوں کو چینیتے والے تو مسلمانوں کے پیچھے بند ہوں اور ڈاکو کھلاؤں اور یہ ایمان کے ڈاکو دنیا تے پھریں اور ملک کے اندر اپنا ایک متوازی نظام حکومت چلا رہے ہیں اور ابھی ناخوش ہیں کہ ان پر ناروا پابندیاں ہیں۔ کمال ہے!

اب اس کے بعد یہ حضرت مولیٰ کی بات کرتے ہیں یہاں تک محض تمہیدی تھی گزشتہ کچھ عرصہ سے پاکستان کے بعض اخبارات میں چند مخصوص جلسقوں کی طرف سے یہ آوازِ اٹھائی جا رہی ہے کہ چونکہ احمدی (یعنی مرزاں) ایک آئینی ترمیم کے ذریعے غیر مسلم قرار دیئے جا چکے ہیں اس لئے ان کو اسلامی شعائر اور اصطلاحات مثلاً نبی رسول، صحابی، ام المؤمنین، اہل بیت علیہ السلام، رضی اللہ عنہ، مسجد، اذان وغیرہ کے استعمال سے روکا جائے اس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے بلطفہ صفحہ

اس کے بعد مصنف نے اسلام کی ہمہ گیر اور دلکش تعلیمات کا حوالہ دیا ہے  
شرفِ انسانیت اور آزادی ضمیر کو پکارا ہے اور پھر آئین ۱۹۴۳ء کی ترمیم عدالت  
کا مذاق اڑایا ہے یعنی مرزاٹی صرف قانونی اغراض کیلئے غیر مسلم ہیں یعنی جو  
قانونِ محض مسلمانوں کیلئے نافذ کیا گیا ہو (ظاہر ہے وہ قانون خالصناً شرعی ہو گا)  
اس کا اطلاق مرزاٹیوں پر نہیں ہو گا بلکہ اللہ کی منطق ہے یعنی  
اتبارِ شریعت سے آزاد ہیں مگر چریچی مسلمان ہیں کیا کہنے اس نکتہ آفرینی کے  
یہاں بہتر ہو گا کہ سب سے پہلے اصطلاحاتِ شرعیہ کا ذکر کریں  
جائے جن کے بارے میں مرزاٹیوں کو شکایت ہے کہ ہمیں ان سے رواکا نہ  
جائے سو ان میں مدب سے پہلے نبی و رسول لکھا ہے۔ اصطلاحِ شریعت  
میں نبی اور رسول اس بزرگزیدہ ہستی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے  
بندوں کی پرداخت کیلئے مبیعث ہو اور ان لوگوں کیلئے جن کی طرف وہ  
مبیعث ہوتا ہے اس کی اطاعت فرض اور اس پر ایمان لانا ضروری فرار  
پاتا ہے اگر ایمان کریں تو کافر کہلائیں گے اور خلود فی النار کی سزا پائیں گے  
اب ذرا سوچئے کہ کیا یہ الفاظ یعنی نبی و رسول کوئی عام الفاظ ہیں  
یا ایک منصب کیلئے خاص ہیں۔ ان کا تعلق محض لغت سے ہے یا  
عقیدہ و ایمان سے اور کیا انہیں ہر کسی کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے؟  
زبانی کامہ کا اقرار جلال و حرام کا اقرار اور اپنے مخصوص لمحے میں  
نبی و کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء و ہونے کو تسلیم کرتا ہے اور  
صفہ نہیں۔ پس یہ عبارت لکھ کر صفحہ ۱۹ تک ایک لمبی تقریب را معنوں میں  
دہراتا چلا جاتا ہے کہ اسلام میں بہت وسعتِ نظر ہے دوسروں کی حفاظت  
کا سامان ہے لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے  
اور کافر بھی اگر نیکی کرے تو اس کی دلخواہی کی جائے گی وغیرہ ذالک  
پھر ۹ صفاتِ انسان کو گھاپھرا کر اپنے مطلب کی بات زبان پر لاتا ہے

کہ مرا صاحب کا دعویٰ نبوت نقل کرتا ہے اور مسا تو مرا صاحب کی یہ دلیل  
 کہ یہ سب مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا۔  
 اب جا کر پڑھتا ہے کہ یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح  
 خاتم الانبیاء مان رہے ہیں خاتم الانبیاء اللہ نے قرار دیا ہے اور ارشاد ہوا  
 ہے وکی رسول اللہ و خاتم النبیین۔ (القرآن) اس کا معنی ہے اور  
 معنی کیا ہے؟ وہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمادی یہ  
 انا خاتم النبیین لا نبی بعدی (الحیث) کہ میں خاتم النبیین ہوں یہ  
 بعد کوئی نبی نہیں اور پھر مجھے کو مختلف طریقوں سے ارشاد فرمایا جسیسے میرزا  
 فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حق میں لوگان بعدی نبیا لکھاں عمر  
 اکاں قال ﷺ کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یقیناً ہماری ہوتا یا حضرت معلیٰ  
 رضی اللہ عنہ جب انہیں ایک غزوہ میں بطور نائب مدینہ منورہ میں چھوڑا  
 توارشاد ہوا تھیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام  
 سے لمحیٰ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی تم نبی نہیں ہو۔ اور  
 اور چند صویں صدی کا یہ بھکاری جو ملکہ معظمہ کو دعا میں درے کر آتشِ شکم  
 کا سامان کرتا ہے اور خود اپنی رائٹے جس کی اپنے بارے میں یہ ہے  
 ہے کہم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم نزاد ہوں  
 ہوں بشر کی جائے نعمت اور انسانوں کی عالم خلام احمد قادریانی  
 یہ حلقہ قبول کر کے پھر کہتا ہے کہ میں اسی وجہ سے نوازا گیا ہوں جو حضور  
 پر نازل ہوئی اور جو باقی تمام رسولوں اور نبیوں پر نازل ہونے والی  
 کلام سے افضل اور روشن لمحیٰ بھری ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم  
 کی اتباع سے حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ ابو بحر صدیق رض اتباع کر کے  
 اس مقام کو نہ پاسکے فاروق اعظم رض جن کو اللہ سے العذ کے نبی ہے  
 مانگ کر لیا یہ درجہ نہ پاسکے حضرت علیؓ سے ارشاد ہوا کہ نبوت کا

در دروازہ بند ہو چکا ہے مگر یہ جانشناز خدا کو رہا گیا، باٹکا سمجھا جوان تھا  
خدا ریجھے گیا اور فوراً نبی نامزد کر دیا۔ جن حضرات کی تربیت نبی کریم  
خود فرمائی اور ۳۴ برس تک ساتھ رہے ان میں سے کسی ایک میں  
بھی نبوت کی صلاحیت پیدا نہ ہو سکی مگر خود صوریں صدی کا یہ نابغہ  
روزگار جب اختاری کے امتحان میں فیل ہوا تو نبوت کا مذہب چاہیا۔

سچ کہ کسی نے ہم کے فیل امتحان میں میں  
اب ارادہ ہے پڑھائی کا

شورش کاشمیری مرحوم نے اس کافوٹو چٹان کے سر ورق پہ چھاپ کر  
اعلان کیا تھا کہ کوئی پہلی نظر دیکھ کر یہ کہہ دے کہ یہ سیکھ کافوٹو نہیں  
تو سور و پیہ انعام لے اور اسکی بھینگی شکل دیکھ کر تھی گمان ہوتا تھا۔  
اب چند صورتیں ہیں

(۱) جن میں پہلی توبیہ ہے کہ یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاہ  
کو جھپٹلاتا ہے۔

(۲) پھر ایک نیا عقیدہ وضع کیا کہ اتباع سے حامل وہی بنا جاسکتا ہے۔  
یہ ایسا عقیدہ ہے کہ کسی بھی شریعت میں نہیں ملتا کہ اس ذاتِ تشریف  
سے پہلے کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے اپنے پیش رو نبی کی غلامی کی  
وجہ سے وحی سے سرفراز کیا گیا بلکہ ہر نبی کا یہ دعویٰ تھا کہ مجھے بھی  
اللہ نے مبعوث کیا۔

(۳) اس کو تمام صحابہ تابعین اور تسبیح تابعین سے افضل مانتا پڑگی  
یہ صاحب وہی ہے اور وہ تو صحابی یا تابعین ہیں

(۴) نہ صرف وہ اس سے درجہ میں کم تھا بلکہ ان کا یہ عقیدہ کہ  
حضورہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب ہے  
انہیں اس کا انکر بنادیا ہے اور وہ اس عقیدے پر اس قدر

سختی سے کار بند تھے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا انہوں نے اس سچیاد کیا  
اور سوا ٹے دو ٹے کے جن میں ایک صورت تھی اور ایک مرد جو  
تائب ہو گئے تھے مجب کو قتل کیا اور جہنم واصل کیا اور کسی مدعا  
نبوت سے نبوت پر دلیل تک نہ مانگی اسی لئے فقہا نے یہ تصریح  
فرمائی ہے کہ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو جو اس سے دلیل طلب  
کرے وہ بھی کافر ہے کہ ختم نبوت کا منکر ہے یعنی اگر کوئی دلیل  
ہو تو یہ ماننے کو تیار ہے

نتیجہ یہ ہوا کہ ابو بھر صدیق رضوی سے لیکر آج تک کے جملہ مسلمانوں کو صحابہؓ  
تابعینؓ، تبعہ تابعینؓ، علماء، مفسرین، محدثین اور اہل اللہ کو معاذ اللہ  
کافر تسلیم کیا جائے اور اس بشرکی جائے نفرت کو بنی۔ اور اگر  
تسلیم نہ کیا جائے تو جو یہ تسلیم کرے اسے آزاری دی جائے کہ وہ اسکی  
نبوت کا اعلان کرتا پھرے اور اس کے لئے بڑی لمبی چوری بحث کی  
گئی ہے جس میں کفار کے ساتھ بھی حسن سلوک کا موضوع خصوص  
اجاگر کیا ہے مگر یاد رہے اس سمارے حسن سلوک کے سماں باقی صحابہؓ  
کرام ہیں جن کی نوازشات سے کافر بھی محروم نہ رہے مگر وہ سارا حسن سلوک  
کافر کیے ہے کافر اس کو کہا جاتا ہے جو اسلام کو قبول نہ کرے مگر افسوس کہ  
تم تو کافر بھی نہیں ہو کہ جو اسلام قبول کرے اور پھر کفر میں لوٹ جائے وہ  
مرتد ہو جاتا ہے خواہ کتنا جہاد بھی کرنا پڑے اسے مدد کرنا کتاب کے ساتھ ملا  
کر چھوڑے اسلام ہر شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا  
کوئی شخص ان کا مال نہ لو ٹے جان سے نہ کھینے مگر ان کے ساتھ تعلق  
بھی نہ رکھے اور حکومتِ اسلامیہ اگر ایسے افراد کو توبہ نہ کریں تو قتل  
کرے یہی وہ فیصلہ جس پر غلافت صدیق اکبرؒ کے بعد صحابہ کا اجماع  
اور عمل ثابت ہے اس قدر ذلت کے سزاوار ایک اسلامی ریاست میں بیٹھ

کر مزے لوٹ رہے ہیں اور ابھی شکوہ کناں بھی ہیں۔

اس کے بعد اصطلاحات کا ذکر چھپڑا ہے تو عرض ہے کہ تمہیں علیہ اللہ کام کرنے کا کیوں اتنا شوق ہے۔ پورے قرآنِ پاک پر نگاہ کرو تو سلام انہیاد کے ساتھ مختص نظر آئے گا جیسے سلام علی یوم ولادت و یوم اموت و یوم البعث چیا یا سلام علی نوحؑ فی العالمین اگر کسی غیر نبی پر سلام اور سلامتی کا امداد ہو گا تو باتیاب نبی نہ کہ براہِ راست۔ یہاں مصنف نے معنی کی بات کی ہے کہ معنے کے لحاظ سے سب کیلئے بولا جا سکتا ہے تو بھئی معنی تو جل شانہ کا ہے واضح اور روشن شان والا تو پھر ہی بولنا شروع کر دو۔ پھر ترقی کرتے رہنا جیسے جل شانہ، صرف ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ بولا جاتا ہے ایسے ہی علیہ اللہ کام صرف انہیاء کے ساتھ اور باقی لوگوں کیلئے خواہ نماز میں ہوں یا قرآن میں انہیاء علیہم السلام کے اتباع میں استعمال ہوا ہے۔

ایسے ہی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے لئے مختص ہے یہی کتاب اللہ کا اسلوب بیان ہے خیر صحابی کے لئے اگر استعمال ہوا تو ساتھ قیدِ لکھاری گئی ہے والذین اتبعوا حصر با لاحسان۔ یعنی ان لوگوں کو نصیب ہو گا جو خلوصِ قلب سے ان کی تابعداری کریں گے اور اس کا فیصلہ تو روزِ حشر ہی ممکن ہے رہا اصحاب الفیل یا اصحاب الشہادت تو ایسے کہلانے سے تمہیں کس نے روکا ہے علماء اگر منع کرتے ہیں تو بایں معنی کہ مرزہ صاحب کے ہم نشینوں کو صحابی کہہ کر صحابہ نبویؐ کامداق نہ اڑاؤ اور پھر یہ فلم ایک اسلامی ریاست میں برپا نہ کرو جب کہ اسی کتاب پر کے صفحہ ۲۵ پر تم نے خود سمجھی بات ہی ہے کہ ہم مرزہ اغلام احمد صاحب کو غیر شرعی اتحانی تسلیم کرتے ہیں۔ حق ہے یعنی القاب بھی غیر شرعی ہے کہ ثیریوت کا منکر ہے اور نبی بھی غیر شرعی یعنی کذاب ہے خوب کہا ہے واد کے مستحق ہو اللہ تمہیں ہدایت کر دے تو اس سے کیا بغیر ہے۔

پھر ام المؤمنین کی بات چھپڑی ہے یہ عہد مُفرہ ہیں کہ مرزہ صاحب کی بیوی کو

ام المؤمنین کہنے سے نہ رہ کا جائے، اُمّ المؤمنین کا لفظ اندوائر مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ جس نے نازل فرمایا ہے اور شمارہ ربیانی ہے وَ از واجهه أهْمَهَا تَهْمَرْ یعنی نبی کی بیویاں تمام مومنوں کی مائیں ہیں اب فردا ان کو سینے کر دیہ مرزا صاحب کو نبی بنا کر ان کی زوجت مطہرہ "جو لقول ان کے ان کی روحانی والدہیں ام المؤمنین کہنے پر مُصر ہیں اور حال یہ ہے کہ مرزا صاحب کی بدھیبی کہ خود تو سنگرہنی کا شکار ہوئے اور نو فیز بیوی علیکم نور دین بھیروی کے کام آئی جوان کا خلیفہ اول تھا۔ انہوں نے خلیفہ اول نے تو اس سے باقاعدہ شماری رچا کر عیش اڑاتا رہا اور یہ شرم بھی نہ رکھتی کہ راہِ حق کو ہندی سے رنجتا رہا مگر اپنے نبی کی بیوی سے عشق لڑاتا رہا اور اب بھی تمہیں یہی اصرار ہے کہ جس کو خود مرزا کے اہمیتی نے بیوی بنا لیا تھا اسے اُمّ المؤمنین کہا جائے تو کیا یہ خلیفہ صاحب مرزا صاحب کے مومنوں میں داخل نہ ہجئے۔

جب تمہیں اسلام سے غرض نہیں تو نہ مدد ہب اسلام کے نام پر تعمیر کرنے کی اجازت کیوں دی جائے کوئی سانام رکھ لوں مسوں ای کفر کے گڑا ہوں کو مسجد اور گمراہی کی طرف جلانے کو اذان کہنا اور ایک اسلامی ریاست میں کہنا کیا یہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کہا ہے کیا تمہیں تاریخ کے اور اقی میں مسجد فرزار کا حشر کہیں نظر نہ آیا اس کا نام بھی مسجد تھا۔ تم چیزیں منافقوں نے اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لئے یہ عمارت بنائیں کہ مسجد نام رکھ لیا تھا جسے اللہ کے آخری نبی نے خود اپنی نگرانی میں مہمہ کرایا تھا تمہاری مسجدیں بھی اسلام کے خلاف کیں گا میں یہ مسجد فرزار سے کسی صورت میں مختلف نہیں ان کا انہدام اسی طرح ضروری ہے جس طرح مسجد فرزار کا انہدام ضروری تھا۔ اور حمد ہب ہے کہ ان کا فلسفہ مذہبی یہ ہے کہ جہاد بالسیف حرام ہے ہبی مرزا کی سبب سے بڑی خدمت تھی جو وہ یہود و نصاریٰ کی بجالا بیا اور ہبی اس کے پسروں کا ایمان ہے مگر اس کا کیا کیا جائے کہ ہماری افراط کا

ماؤ ہے ایمان، تقویٰ اور جہاد فی سبیلِ اللہ اور  
ہمارے معاشرے کی فراخدا کا یہ عالم ہے کہ جو لوگ جہاد کو حرام سمجھتے ہی نہیں جزو  
ایمان جانتے ہیں وہ نہ صرف افواجِ پاکستان میں بھرپور ہوتے چلے آ رہے ہیں  
 بلکہ وہ جنپل جیسے اعلیٰ ترین عہد نہ تک ترقی پاتے آ رہے ہیں۔ ملک و ملت  
سماں اس سے بڑھ کر مذاق اور کیا ہو سکتا ہے اور یہ مار آستین قوم اور  
وطن کے خیرخواہ کس منطق کے تحت قرار دیئے جا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود  
یہ ظالم افواجِ اسلام میں نہ صرف رکھتے جاتے ہیں بلکہ اعلیٰ عہدوں پر عیش کرتے  
ہیں حق یہ ہے کہ کسی بھی ایسے عقیدہ کے حامل شخص کو افواجِ پاکستان  
یہ نہ جانے دیا جائے

مرزا ائمہ کو غیر مسلم ہمہوری حکومت نے نہیں بلکہ خدا نے خدا کے رسول اور  
صحابہؓ کی مقدس جماعت نے قرار دیا ہے جنہوں نے مددِ عیانِ نبوت کے  
ساتھ جہاد کر کے اور انہیں واصلِ جہنم کر کے ان کی حیثیت متعین فرمادی تھی  
کہ توبہ کریں ورنہ حکومتِ اسلامیہ ان کے ساتھ قتال کرے اور علماء  
اسلام کا یہ مطالبہ حق ہے نہ ظلم ہے نہ نریادی کہ ان کو شرعاً مسراً مسلمانی  
اور اصطلاحاتِ شرعی کے استعمال سے روکا جائے

وَمَا عَلِمْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

الداعی ای المیر

وعاگو

محمد اکرم اعوان

حل کراجی

## ضمیمہ

کتاب پچھے طباعت کیلئے جا چکا تھا کہ مجھ کے اخبار میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جزء محمد خداوند الحق کی طرف سے آرڈیننس کے نفاذ کی خبر پڑھی اللہ کریم صدر مملکت کی اس خدمت کو قبول فرمائے  
انہیں دو عالم میں سفرخود رکھیں... آئین

صدر کی ذات اور رائے سے اختلاف ممکن ہے اور جائز بھی مگر بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو  
اپنے آپ کو منوالیتی پیں اور جن سے الگار ممکن نہیں

اوں اور نظریب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تقریباً ساڑھے چار صدیوں میں ایوان سلطنت سے کسی  
نے ملا اسلام کی دعوت نہیں دی پھر یہ سعادت بھی اسی بندہ خدا کے نصیب میں لکھی تھی  
ہر ایک ہستی کی اپنی خدمات ہیں حصولِ ملک کی مسامی جمیلہ کی قدر و قیمت اپنی جگہ۔ اللہ  
ہر اس قدم پر رحمت بر رائے جو اسلام اور مسلمان کے تحفظ کیلئے انجام دے

**ہر گلے رارنگ د بوئے دیگر اسست**

تحریک حصولِ پاکستان یا قیامِ پاکستان میں سب کا اپنا ارتکبھے میں ان حذرات سے  
حوالہ نہ نہیں کر رہا یہکو یہ بات ناقابلِ تردید ہے کہ تقریباً ساڑھے چار سو سال کی طویل  
مدت کے بعد گورنمنٹ یا وُس یا ایوان صدر سے دعوت و تبلیغ کے صورتے پھوٹے فالحد للہ علی ذواللہ  
دوں یہ سعادت بھی اسی صریخ کے حصہ میں آئی تھی قاریانیوں اور لاہوریوں ہر دو مرزا شویں  
کو اسلامی اصطلاحات و عبارات میں نقش لگانے سے منع کر دیا گی

اب اس امر کی امید کرنا قطعیٰ بجا ہوا کہ صدرِ محترم اس آرڈیننس کو فرور نگاہ میں رکھیں گے  
اور اسے صفحہ رسمی کارروائی نہ بننے دیا جائے گا

بیز خامتوہ المسلمین کا فرض ہے کہ جہاں یہ جرم سرزد ہوتا ہوا پائیں اس کے لئے  
عدلالت کا دروازہ کھٹکھٹا ہیں۔

اللہ تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہوا اور ہر اس شخص پر رحم فرمائے جو کسی بھی طرح سے  
اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرے

اللہ مسلمانوں کے اس عظیم ملک کو اپنی حفاظات و پناہ میں رکھئے اور  
کوچک پر غشگ سرو من

(۱۲)

دینِ اسلام کو اس میں چاری و ساری فرمائے  
اہمین پارٹ العلیمین

محمد اکرم اعوان

۶۳، رجب المرجب ۱۳۰۴ھ

بھٹاپوری ۲۷، اپریل ۱۹۸۳ء